



فورٹ بینڈ کاؤنٹی کورٹس

لینگویج اسسٹنس سروسز کی درخواست کیسے کرنی ہے

کورٹ کی لینگویج اسسٹنس پالیسی - اگر کسی مدعی، پارٹی، مؤکل، گواہ یا عدالتی کارروائی سے وابستہ کسی فرد کو عدالتی سماعت کے دوران انگریزی زبان میں بات کرنے میں دشواری پیش آتی ہے یا اسے انگریزی میں ترجمہ شدہ ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے، تو وکیل یا محدود انگریزی کا ماہر فرد (LEP) کو انٹریپرٹیشن یا ترجمے کی سروسز کے لیے تحریری درخواست کرنی چاہیے۔ اگر ضرورت ہو تو درخواست فارم کو پُر کرنے میں مدد دستیاب ہے۔ عدالت تمام عدالتی کارروائیوں میں انٹریپرٹیشن یا ترجمے کی سروسز کے تمام اخراجات کور کرے گی۔

انٹریپرٹنگ ریگوسٹ فارمز کاؤنٹی کورٹ کے ویب پیج پر دستیاب ہیں www.fbctx.gov/languageaccess۔ پرنٹ شدہ کاپیاں ہر کمرہ عدالت میں اور پہلی منزل پر واقع جسٹس سینٹر انفارمیشن ڈیسک پر بھی دستیاب ہیں۔

مکمل شدہ فارم کورٹ کو آرڈینیٹر یا لینگویج ایکسیس ڈائریکٹر کو کسی بھی پیشی، سماعت، یا مقدمے کی سماعت سے کم از کم 72 گھنٹے پہلے جمع کرانا چاہیے جس میں وکیل کو مندرجہ ذیل نو زبانوں میں سے کسی ایک میں زبان کی انٹریپرٹیشن کی ضرورت کا معقول اندازہ ہو:

گجراتی	اردو	ہسپانوی
ہندی	ملیالم	ویتنامی
عربی	ٹیگالگ	چینی

وکیل یا اپنی نمائندگی کرنے والے افراد کو کسی دوسری زبان میں لینگویج انٹریپرٹیشن سروسز کی ضرورت کے لیے چودہ (14) دن کا نوٹس دینا چاہیے۔ لاء یا ڈسٹرکٹ کورٹس کے کاؤنٹی کورٹس میں سروسز دینے والے تمام انٹریپرٹرز کو ایک ماسٹر لائسنس یافتہ سرٹیفائیڈ کورٹ کا انٹریپرٹ ہونا چاہیے، جب تک کہ قانون کے ذریعہ اس کی وضاحت نہ کی گئی ہو۔

جج کی صوابدید پر کچھ معاملات میں ان ٹیڈ لائنز سے چھوٹ دی جا سکتی ہے۔ ان ٹائم لائنز کا مشاہدہ اہل اور لائسنس یافتہ انٹریپرٹرز کو تلاش کرنے میں مدد کرتا ہے۔

یہ اٹارنی یا LEP کی ذمہ داری ہے کہ وہ درخواست فارم کو مکمل کریں اور اسے عدالتی کو آرڈینیٹر کو، ذاتی طور پر یا ای میل کے ذریعے واپس کریں۔ انٹریپرٹیشن یا ترجمے کی سروسز کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، براہ کرم 2816337658 پر کال کریں یا ہمیں ای میل کریں: languageaccess@fbctx.gov۔